



# پاکستان کی کہانی ملی نغموں کی زبانی

خواب ہے اقبال کا اور قائد کی امنگ  
جیون سنگ لگائے رکھنا اس کی ہر لگن  
ہم آن، ہم شان، ہم اس کی جان ہیں

السلام وعلیکم!

1: پیارے بچو! آج آپ بہت خوش نظر آرہے ہیں۔ ہاتھوں میں جھنڈیاں لہرا رہے ہیں۔ کیا آپ ہم سے اپنی خوشی share کریں گے؟

ماؤں کی دعا پوری ہوئی اور ہمیں اتنی پیاری دنیا میں گھر مل گیا  
اللہ کا احسان ہے ہمارا پاکستان  
ہم آن، ہم شان، ہم اس کی جان ہیں

2. الحمد للہ، اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں پاکستان مل گیا لیکن بچوں کیا آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی آزادی کے لئے ہمارے بڑوں نے کیا جدوجہد، کیا کوششیں کی؟

پانسے سبھی پلٹ گئے دشمن کی چال کے  
کھیلے ہیں ہم نے کھیل کچھ ایسے کمال کے  
منزل پہ آتی ہر بلا کو ٹال کے  
برسوں کے بعد پھراڑے پرچم ہلال کے  
ہم لائیں ہیں طوفان سے کشتی نکال کے  
اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے

3: جی واقعی آج تو 14 اگست ہے پاکستان کا یوم آزادی، اچھا یہ تو بتائیں پاکستان کا مطلب کیا ہے؟

پاکستان کا مطلب کیا

لا الہ الا اللہ

کون ہمارے رہنما

محمد رسول اللہ

حکم نبی منشائے خدا

4: پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اچھا یہ تو بتائیں پاکستان میں کیا کیا ہے؟

دین، زمین، سمندر دریا کوہستان

سب کے لئے سب کچھ ہے اس میں

یہ ہے پاکستان

یہ ہے پاکستان اپنا، یہ ہے پاکستان

5: واہ بھئی ماشا اللہ! آپ کو تو پاکستان کے بارے میں بہت کچھ پتہ ہے۔ ذرا یہ بھی تو بتائیے پاکستان کے بانی کون ہیں۔

ہمارے قائد اعظم، پیارے قائد اعظم

بھول سکیں ہم انکی باتیں یہ کیسے ممکن

Fait Unity Decipline

6: قائد اعظم کا پیغام تو آپ نے بتایا ہے، قائد اعظم کا اصل نام تو آپ کو معلوم ہی ہوگا۔

ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح

ملت ہے جسم جان ہے محمد علی جناح

صد شکر پھر سے گرم سفر اپنا کاروں

اور سیرکارواں ہے محمد علی جناح

7: ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، بہت خوب، اچھا ذرا اپنے پرچم کے بارے میں بھی بتائیے جسے آپ زور زور سے ہلا رہے ہیں۔

ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم  
عطائے رب کریم پرچم  
ہماری عظمت کا پاسباں ہے  
ہماری ملت کا ترجمان ہے  
ہمارے احساس کا بیان ہے  
ہماری رفعت کا آسمان ہے  
عظیم ملت، عظیم پرچم  
عطائے رب کریم پرچم

اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان کے پرچم کو ہمیشہ سر بلند رکھے۔ آمین!

8: پیارے بچو! کیا آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کا آدھا حصہ ہم سے جدا ہو گیا ہے۔

پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، بات ایسی ہے کہنے کا یاد نہیں  
قبر اقبال سے آرہی تھی صدا، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں  
شہر ماتم تھا اقبال کا مقبرہ، تھے عدم کے مسافر بھی آئے ہوئے  
9: خون میں لت پٹ کھڑے تھے لیاقت علی

روح قائد بھی سر کو جھکائے ہوئے

کہہ رہے تھے سبھی کیا غضب ہو گیا، یہ تصور تو ہر گز ہمارا نہیں

9: مشرقی پاکستان کا ہم سے الگ ہو جانا پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے بہت تکلیف دہ ہے۔ اپنے پاکستان کی ترقی اور بقا کے لئے آپ کیا ارادے رکھتے ہیں۔

موج بڑھے یا آندھی آئے

دیا جلانے رکھنا ہے

گھر کی خاطر سود کھ چھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے۔

10: شباش! آپ کے جذبات اور ارادے تو بہت اچھے ہیں کچھ کشمیر کے بارے میں بھی آپ کو معلومات ہیں؟

میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن

ستم شعاروں سے تجھ کو چھوڑائیں گے ایک دن

تیری بہاروں میں پھر مسکرائیں گے ایک دن

میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن

کشمیر بنے گا پاکستان

انشاء اللہ

11 : یوم آزادی کے موقع پر پاکستانیوں اور پاکستان کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے۔

میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کردوں

محببتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پر نثار کردوں

میرے وطن میرے بس میں ہو تو، تیری حفاظت کروں میں ایسے

خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کردوں

میرے وطن

میرے وطن